

22004 - حجر اسماعیل; ل صرف نام ہ; 1740#&ہ; ہے جس ک; 1740#& کوئ اصل; 1740#& ت

نہ; 1740#& ن

سوال

میں نے اپنے شیخ سے سنا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہاجر حجر اسماعیل (حطیم) میں دفن ہیں کیا یہ صحیح ہے ؟

پسندیدہ جواب

الحمد لله.

پہلے تو ہم یہ تنبیہ کرنا چاہتے ہیں کہ لوگوں کا حطیم کو حجر اسماعیل کہنا ایسا نام ہے جس کی کوئ اصلیت نہیں ، اور اسماعیل علیہ السلام کو اس (حطیم) کا تو علم بھی نہیں ۔

ابراہیم اور اسماعیل علیہما السلام نے کعبہ کو مکمل بنایا جس میں یہ حطیم بھی شامل تھا یعنی اس وقت یہ حطیم والی جگہ بھی کعبہ میں شامل تھی ، پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل آگ لگنے اور سیلاب کی وجہ سے دیواریں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئیں توفیریش نے بچی کھچی دیواروں کر گرا کر اس کی تعمیر نو کی تو حلال کا خرچہ کم پڑ گیا جس کی بنا پر ابراہیم اور اسماعیل علیہما السلام کی بنیادوں پر کعبہ کی تعمیر مکمل نہ ہوسکی اور حطیم کو باہر نکال دیا گیا اور اس پر ایک چھوٹی سی دیوار بنا دی تا کہ یہ بھی کعبہ کا حصہ ہی معلوم ہوتا رہے ۔

اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے آپ پر شرط لگائی تھی کہ تعمیر کعبہ میں صرف حلال پونجی ہی لگائی جائے گی جس میں نہ توسودی رقم اور نہ ہی فحاشی کی کمائی اور نہ ہی ظلم و ستم کے طریقہ سے حاصل ہونے والا پیسہ صرف کیا جائے گا ۔

صحیحین میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حدیث مروی ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ :

میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا حطیم بھی بیت اللہ کا حصہ ہے ؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا جی ہاں ، میں کہنے لگی انہیں کیا ہوا کہ انہوں نے اسے بیت اللہ میں شامل کیوں نہیں کیا ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : تیری قوم کے پاس خرچہ کم ہو گیا تھا ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر (1584) صحیح مسلم حدیث نمبر (1333) ۔

اور جدر ، جدار ہی ایک لغت ہے جس سے مراد حجر (حطیم) ہے ۔

تو اب صحیح یہی ہے کہ اسے اسماعیل علیہ السلام کی طرف منسوب کیے بغیر صرف حجر (حطیم) ہی کہا جائے نہ کہ حجر اسماعیل علیہ السلام ۔

اور یہ بات کسی بھی مرفوع اور صحیح حدیث میں ثابت نہیں کہ اس میں اسماعیل علیہ السلام یا پھر ان کی والدہ ہاجر مدفون ہیں ، لیکن کچھ ایسے آثار جو کہ سب کے سب واہی اور ضعیف اسانید کے ساتھ مروی ہیں جن میں یہ ذکر ملتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی قبر حطیم میں ہے ۔

دیکھیں کتاب :

تحذیر الساجد من اتخاذ القبو مساجد ، للشیخ علامہ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ ص (75 - 76) ۔

اور یہ کہ اسماعیل علیہ السلام اپنی والدہ یا پھر انہیں ان کی اولاد کعبہ کے اندر دفن کرے یہ تو بہت ہی بعید ہے جو کہ سوچ میں بھی آئی مشکل ہے ، اور یہ کہنا بھی صحیح نہیں اور نہ ہی اس کا کہیں ثبوت ہی ملتا ہے ۔ واللہ اعلم ۔